



ALAMEDA COUNTY COVID-19 HEALTH EMERGENCY PRESS RELEASE

COUNTY OF ALAMEDA ★ CALIFORNIA

Office of Emergency Services
4985 Broder Blvd, Dublin, CA 94568

Alameda County Health Care Services Agency

نیٹو بلرام، پبلک انفارمیشن مینیجر ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ

فوری تشہیر کیلیئے:

اپریل 23، 2020

الامی ڈا کونٹی کا پبلک ہیلتھ کا محکمہ رہائشیوں کو یاد دہانی کرتا ہے کہ گھر پر قیام کے حکم کے دوران بحفاظت رمضان گھر پر گزاریں

الامی ڈا کونٹی - الامی ڈا کونٹی پبلک ہیلتھ لوگوں کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ گھر پر قیام کا حکم اجتماعات سے منع کرتا ہے اور افراد کو گھر پر رہنے کی ہدایت کرتا ہے، سوائے ضروری کاموں کے۔ یہ حکم مے کی 3 تاریخ تک لاگو ہے اور ضرورت کے مطابق ترمیم کی جاسکتی ہے۔

جیسا کہ مسلمان کمیونٹیاں رمضان کے مہینے کی طرف بڑھ رہی ہیں، براے مہربانی سی او وی آئی ڈی-19 کے پھیلنے کو کم کرنے کیلئے مدد کرنے کی خاطر گھر پر قیام کو جاری رکھیے اور ضروری کاموں کیلئے باہر جاتے ہوئے چہرے پر ماسک پہن لیجیے۔ وہ لوگ جو ایک گھر میں ساتھیوں سے رہتے انکے درمیان رابطے کو کم کرنے سے اس چیز میں مدد ملتی ہے کہ نامعلوم طور پر لوگ دوسروں تک بیماری منتقل نہ کر سکیں۔

برائے مہربانی یاد رکھیے کہ مساجد نماز کیلئے بند رہنی چاہیے اور کمیونٹی کے تمام اجتماعات ممنوع ہیں۔ گھر پر قیام کا یہ مطلب یہی ہے کہ خیرات کی خاطر خوراک تقسیم کرنے سے پرہیز کیا جائے یا خاندان یا دوست جو ایک گھر میں نہیں رہتے ان سے نہ ملا جائے۔

ہماری کمیونٹیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ گھر پر نماز ادا کریں اور اس طرح کے رواجات جیسا کہ افطار یا شام کو مسجد میں نماز تراویح، اور آخری دس دن اعتکاف کیلئے مسجد میں عبادت سے پرہیز کریں۔ ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ گھر پر قیام کی مے کے اخیر کی ہدایات کیا ہوں گی، قیاس ہے کہ آپ کو رمضان کے اخیر میں عید منانے کی تقریبات سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہوگی۔

یہ ہدایات شمالی کیلیفورنیا کی اسلامی کونسل کے رہنما کے ساتھ مشاورت سے تیار کیے گئے ہیں۔ اس بات کی توثیق کرنا ضروری ہے کہ ذاتی طور پر اجتماعات کی منسوخی عبادت کرنے کی منسوخی نہیں ہے۔ ہم آپکو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے روحانی رہنما سے روزوں کے اس اہم مہینے اور خیرات کی ذمہ داریوں کے بارے میں ہدایات لیجیے۔ بہت سی مساجد انٹرنیٹ کے ذریعے مجازی طور پر خدمات مہیا کر رہی ہیں۔

جیسے کہ مسلمان رمضان کے مہینے کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں، سی او وی آئی ڈی-19 کی وبا کمیونٹی کیلئے مستقل طور پر ایک بڑی پریشانی ہے، اور مزہبی "ذمہ داریوں کی ادائیگی کو معاشرے کے ہر فرد کی فلاح اور حفاظت کے ساتھ توازن میں ہونا چاہیے"، ڈاکٹر حاتم بازیان، سربراہ، شمالی کیلیفورنیا اسلامی کونسل کہتے ہیں۔

آپکے گھر میں بحفاظت مجازی طور پر کس طرح اپنی عید مناسکتے ہیں، ذریعے معلوم کرنے کیلئے، وزٹ کیجیے

<http://www.acphd.org/media/570945/covid-19-ramadan-holiday-2020.04.23.pdf>

ان مشکل حالات میں، جسمانی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے سماجی طور پر منسلک رہنا زہنی اور جسمانی صحت کا ایک اہم حصہ ہے، "ڈاکٹر ایریکا پین، عبوری ہیلتھ آفیسر، الامی ڈا کونٹی پبلک ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ۔ "شہادت موجود ہے کہ ہماری کوششوں سے وبا کی کمان سیدھی ہو رہی ہے اور ہم لوگوں کے اس عزم کیلئے شکرگزار ہیں جو لوگوں کو محفوظ اور صحت مند رکھنے کیلئے اس حساس حکمت عملی کے ساتھ ہیں۔ رمضان کی مبارک باد اور ہم آپ سب کی محفوظ تقریبات کی خواہش کرتے ہیں۔"

گھر پر مقیم رہنا، بار بار ہاتھ دھونا، ضروری کاموں کیلئے گھر سے باہر جانے کی ضرورت پڑے تو چہرے کو ڈھانپنا، اور دوسروں سے 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھنا ابھی تک اس منفرد کرونا وائرس کے خاتمے کے بہترین طریقے ہیں۔

مزید معلومات کیلئے وزٹ کیجیے

<http://www.acphd.org/2019-ncov.aspx>

MEDIA
EOC-PIO@acgov.org

PUBLIC
Covid19compliance@acgov.org

PHONE
925.803.7890



Alameda County
Health Care Services Agency





ALAMEDA COUNTY COVID-19 HEALTH EMERGENCY PRESS RELEASE

COUNTY OF ALAMEDA ★ CALIFORNIA

Office of Emergency Services
4985 Broder Blvd, Dublin, CA 94568

Alameda County Health Care Services Agency

گھر پر قیام کے بارے میں بار بار پوچھے جانے والے سوالات کیلئے وزٹ کیجیے

Visit <https://covid-19.acgov.org/index.page>

MEDIA
EOC-PIO@acgov.org

PUBLIC
Covid19compliance@acgov.org

PHONE
925.803.7890



Alameda County
Health Care Services Agency

